



اے سی سی انڈر 19 ایشیا کپ میں افغانستان نے پاکستان کو شکست دے دی

- افغانستان نے پاکستان کو 85 رنز سے شکست دی
- افغانستان کے شفیق اللہ نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا

کراچی، 5 ستمبر 2019ء:

کولمبو میں جاری اے سی سی انڈر 19 ایشیا کپ میں پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم نے اپنے سفر کا آغاز 5 ستمبر کو کیا۔ ایشین کرکٹ کونسل کی جانب سے جاری کردہ تفصیلات کے مطابق قومی انڈر 19 کرکٹ ٹیم کو افغانستان کے خلاف میچ میں 85 رنز سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بارش کے باعث میچ کو 46 اوورز تک محدود کر دیا گیا تھا۔

میچ میں پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم کی جانب سے کپتان روحیل نذیر اور عرفان خان کے علاوہ کوئی کھلاڑی ڈبل فگر کا ہندسہ عبور نہیں کر سکا۔ افغانستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم کے اسپنر شفیق اللہ نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔

164 رنز کے تعاقب میں قومی انڈر 19 کرکٹ ٹیم 19.4 اوورز میں 78 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ عرفان خان 19 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ کپتان روحیل نذیر نے 16 رنز بنائے۔ افغانستان کی جانب سے شفیق اللہ نے 3 جبکہ نور احمد، فضل حق اور عابد اللہ نے 2، 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔

اس سے قبل قومی انڈر 19 کرکٹ ٹیم کے کپتان روحیل نذیر نے ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے افغانستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم نے مقررہ 46 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 163 رنز بنائے۔ میچ میں پاکستان کی اسپن جوڑی عامر علی اور فہد منیر نے مجموعی طور پر 6 وکٹیں حاصل کیں۔

فہد منیر نے اپنے 9 اوورز پر مشتمل کوٹے میں محض 23 رنز دے کر 3 کھلاڑیوں کو

آؤٹ کیا جبکہ عامر علی نے 10 اوورز میں 34 رنز کے عوض 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ قومی انڈر 19 کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر عباس آفریدی نے 26 رنز دے کر 2 حریف کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ فاسٹ بولر نسیم شاہ نے اپنے 9 اوورز کے کوٹے میں محض 13 رنز دے کر 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔

دوسری جانب افغانستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم کے صرف 2 بیٹسمین انفرادی طور پر 20 رنز کا ہندسہ عبور کر سکے حریف ٹیم کے بیٹسمین صدیق اللہ نے 29 اور رحمن اللہ نے 27 رنز بنائے۔

اے سی سی انڈر 19 ایشیا کپ میں پاکستان اپنا اگلا میچ بھارت کے خلاف 7 ستمبر بروز ہفتہ کو کھیلے گا۔

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk

ABOUT THE PCB

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the country.

The PCB's purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men's and women's cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series.

The PCB is committed to developing ground and facility infrastructure, monitoring the implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training provision for officials and coaches.

Commercial Partners



www.pcb.com.pk ●
@therealpcb ●
@PakistanCricketBoard ●
@PakistanCricketOfficial ●
@therealpcb ●

PCB Headquarters
Gaddafi Stadium
Ferozpur Road, Lahore
Pakistan, PO Box 54000
T: +92 42 3571 7231-4